

## General Science 6th Class Urdu Medium Chapter 3 Online Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	انرن ایک ہے	A. منزل B. وثامن C. کاربوبالیٹریٹ D. پروٹین
2	کون سا وثامن بٹیوں کو مضبوط بناتا ہے۔	A. وثامن اے B. وثامن بی C. وثامن سی D. وثامن ڈی
3	ایک بچے کے لیے متوازن غذا ہے۔	A. دودھ B. پھل C. انڈہ D. سبزی
4	ویجیٹل آئل خوراک کے جس گروپ سے ہے۔	A. کاربوبالیٹریٹ B. پروٹین C. فیش D. وثامن
5	ستارج کا زریعہ ہے۔	A. انڈے B. الو C. گوشت D. مچھلی
6	وثامن آئے کا ماخذ ہے۔	A. ٹبل سالٹ B. گلیر C. سرسوں کا نیل D. چینی
7	کاربوبالیٹریٹ سے بھر پور خوراک ہے۔	A. کارن آئل B. گلے کا گوشت C. انڈا D. ستارج
8	فیش فرابم کرنے کے لیے کون سا کھانا بہتر بنتا ہے۔	A. پھل B. مکین C. سبزیاں D. روٹی
9	پروٹین سے بھرپور خوراک ہے	A. الو B. انگور C. چاول D. مچھلی
10	بمارے جسم کے لیے نوانٹی کا ایک فوری زریعہ ہے۔	A. چنی B. مشروم C. گوشت D. آم